

ROOTWORDS AL A' RAAF 138-153

يَسْؤِفُونَكُمْ	أَبْوَيْكُمْ	مُتَبِّرٌ	أَصْنَامٌ	يَعْكُفُونَ	جَاوِزًا
س و م	ب غ ي	ت ب ر	ص ن م	ع ك ف	ج و ز
پہنچاتے تھے تمہیں	میں تلاش کروں تمہارے لیے	برباد ہونے والا ہے	بتوں	پیٹھے تھے	پار اتارا ہم نے
تَجَلَّى	اسْتَقَرَّ	مِيقَاتٌ	فَتَمَّ	أَتَمَمْنَاهَا	فَلَايِينَ
ج ل و	ق ر ر	و ق ت	ت م م	ت م م	ث ل ث
تجلی کی	ٹھہرا رہا	مدت	پس پوری ہو گئی	پورا کیا ہم نے اسکو	تیس
عَجَلًا	حَلِيْبِهِمْ	حَيْطَتٌ	صَعِفًا	حَرَ	دَكَا
ع ج ل	ح ل ي	ح ب ط	ص ع ق	خ ر ر	د ك ك
مچھرا	اپنے زیور	ضائع ہو گئے	بے ہوش ہو کر	گر پڑے	ریزہ ریزہ
الْأَلْوَاخِ	خَلْفَتُمُونِي	أَسْفَا	سَقِطٌ	خَوَازٌ	جَسَدًا
ل و ح	خ ل ف	أ س ف	س ق ط	خ و ر	ج س د
تختیاں	بڑی نامعقول حرکت کی	افسوس کی حالت میں	گرائے گئے/نادم ہوئے	گائے کی آواز	ایک جسم
الْمُفْتَرِينَ	سَيِّئَاتِهِمْ	نُشِمِتٌ	اسْتَضْعَفُونِي	يَجْرُهُ	بِرَأْسِ
ف ر ي	ن ي ل	ش م ت	ض ع ف	ج ر ر	ر أ س
بہتان باندھنے والوں کو	عنقریب پہنچے گا انکو	ہسنے کا موقع دیں	مجھے کمزور سمجھا	کھینچنے لگے	سر (کے بالوں)